

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

# ICF Newsletter

October 2008, Shawal 1429 A.H. – Issue 2, Vol. 1

## Islamic Center of Fremont

4039 Irvington Avenue, Fremont CA 94538

Website: <http://www.icfbayarea.org> Phone - (510) 661-0352

Bayaans By Mufti Muddassir: Website: <http://www.bayaans.org>

Join our mailing list: [icfall@yahoogroups.com](mailto:icfall@yahoogroups.com)

Send your news, views, comments and contribution for the newsletter to [newsletter@icfbayarea.org](mailto:newsletter@icfbayarea.org)

### Prayer Times at ICF

Date	Fajr	Zuhur	Asr	Maghrib	Isha
Wed, 1	06:00	01:30	05:45	06:53	08:45
Fri, 3	06:30	01:30	05:30	06:50	08:15
Fri, 10	06:30	01:30	05:30	06:40	08:00
Fri, 17	06:30	01:30	05:15	06:31	08:00
Fri, 24	06:45	01:30	05:15	06:21	08:00

### Important Information

- ICF has conditional permit to run the center, so please take care of the parking.
- Legal Parking Spots: Parking at the Masjid, Pakwan, Church and on the streets
- Illegal Parking Spots:  
Taco Truck parking, Shopping complex behind the masjid, neighboring apartments and red marked areas on the streets

Please help ICF in avoiding another citation from City.

### Programs @ICF:

<u>Name</u>	<u>Day</u>	<u>Timing</u>	<u>Language</u>
Aalim Course	Mon-Thu	7:00AM – 10:30 AM	-
Iqra Hifz School	Mon-Fri	7:00AM – 4:30PM	-
Maktab	Mon-Thu	4:00PM – 5:30PM	-
Adult Hifz Course	Monday	After Isha	-
Fiqh/Hajj Class	Tuesday	After Isha	Urdu
Tafseer	Thursday	After Isha	Urdu
Youth Islamic class	Saturday	After Maghrib	English
Weekly Dars	Sunday	After Maghrib	Urdu

# Keeping the Spirit of Ramadhan Alive

Contributed by Maulana Tameem Ahmadi

## To Which Group Do You Belong?

Now that the blessed month of Ramadhan has passed, we should be asking ourselves as to which group of people do we fall under? Do we belong to that group about which Rasulullah (sallallahu alaihi wa sallam) said: ***“There are many people who fast but get nothing from their fasting except hunger and thirst. And there are many people who stay awake at night in worship but get nothing from this worship other than sleeplessness and tiredness.”*** (Narrated by Ibn Majah, Ibn Khuzayma, Tabarani, and Bayhaqi)

Or do we fall under the category of those people who have attained true *taqwa* and fear of Allah Ta`ala through fasting and devotions in this blessed month as Allah wanted us to: ***“O You who believe, fasting has been ordained upon you just as it was ordained upon those before you, so that you may gain taqwa (fear of Allah, and self-restraint from sins).”*** (2:183)

## Post-Ramadhan Regression

Another question we should be asking ourselves is: how can I continue to keep this noor and barakah of Ramadhan with me, throughout the year? How can I keep this spirit of Ramadhan alive?

Usually, after the Eid celebrations and parties we tend to get lazy and fall into the same unmindful state as we were in before Ramadhan. Back-biting, intermingling with na-mahrams, music, singing and dancing, throwing off the hijab, missing prayers, are all some signs that Ramadhan is now gone and people are back to their same old routine again. It so unfortunate that we work so hard in fasting and devotions to Allah in Ramadhan, then immediately after this month we waste all the blessings and spiritual benefits of worship in disobedience and useless pursuits.

May Allah Ta`ala save us all from this type of attitude and grant us the ability to always please Allah, and not be occasional Muslims. We should remember that we are Muslims at all times; twenty-four hours a day, seven days a week, whether in America, India or Pakistan, or Philistine. Our Islam is not restricted to a time or place or country or mood. Our Islam should be as Ibrahim (alaihis salaam) was commanded to say: ***“Say: Indeed, my prayer and my sacrifice and my life and death are all for Allah, Lord of the Worlds...”*** (6:162)

## How To Keep The Spirit of Ramadhan Alive

An intelligent person would want to preserve these spiritual blessings and rewards which he gained in this month. One way to do this is to observe the six optional fasts of Shawwal. Shawwal is the month which follows Ramadhan.

It is narrated by Abu Ayyub (radhiallahu anhu) that Rasulullah (sallallahu alaihi wa sallam) said: ***“Anyone who fasts the month of Ramadhan then follows it up with the six optional fasts of Shawwal, he will get the reward of fasting the whole year.”***

(Narrated by Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa`i, Ibn Majah, and Tabarani)

In another narration it has been mentioned that the reason why a person attains the reward of fasting the whole year is because every deed is multiplied by ten. So the 30 days of Ramadhan is equal to 300 days (10 months) in reward and the 6 fasts of Shawwal is equal to 60 days (2 months) in reward. Thus, it is as if a person fasted for 360 days.

In this blessed sunnah of Rasulullah (sallallahu alaihi wa sallam) there is a great lesson for us. That lesson is that our actions and devotions to Allah Ta`ala should be constant and not restricted to one day or one month alone. Rather we should follow through with our actions to keep the spirit of devotion alive.

Rasulullah (salallahu alaihi wa sallam) said: ***“The most beloved action in Allah’s sight is that which is constant, even if it might be little.”*** (Bukhari and Muslim)

## Some Masa`il Regarding The 6 Optional Fasts of Shawwal

The 6 fasts do not have to be kept back to back in consecutive order. They can be kept in any order as long as they are done in this month. (Mirqat; 4/476)

The 6 days can be kept immediately after the day of Eidul Fitr. One does not have to wait 3 days after the day of Eid, as is the common misconception.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## اسلام خود ایک روزہ ہے

میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو آپ کو رمضان المبارک کی سعادت ملنے اور رمضان المبارک میں روزے رکھنے اور اس کام کے لیے توفیق الہی پر مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ معمولی عبادت نہیں ہے، اسکے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے وعدے فرمائے ہیں اور اللہ کے رسول ﷺ نے بڑی بشارتیں سنائی ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَ اِحْتِسَابًا مَغْفِرَةٌ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

کھ جس نے رمضان کے روزے رکھے اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے ایمان کے ساتھ اسکے اگلے پچھلے گناہ معاف ہوئے۔

روزے دو طرح کے ہیں، ایک چھوٹا روزہ ایک بڑا روزہ۔ چھوٹے روزے کی تحقیر نہیں بلکہ صرف وقت اور زمانے کے لحاظ سے کہ رہا ہوں۔ چھوٹا روزہ بڑا ہو ۱۳، ۱۴ گھنٹہ کا روزہ ہو گا۔ یہ وہ روزہ ہے جو بالغ ہونے کے بعد مسلمان پر فرض ہوتا ہے۔ اور صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور مغرب تک قائم رہتا ہے۔ اس روزے کے کچھ شرعی احکام ہیں۔ آپ جانتے ہیں روزے میں آدمی کھانی نہیں سکتا اور ان تعلقات اور معاملات کا لطف حاصل نہیں کر سکتا جن کی اور دنوں میں اجازت ہے۔ اور یہ روزہ ۲۹ دن کا ہو یا ۳۰ دن کا۔ اس میں محدود پابندیاں ہیں اور اس روزے سے سب واقف ہیں اور اسکے احکام پر عمل کرتے ہیں۔

میں چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں اس روزے کے علاوہ اور کونسا روزہ ہے جو اپنے وقت اور زمانے کے اعتبار سے بڑا ہے۔ یہ ہے اسلام کا روزہ، اسلام خود ایک روزہ ہے۔ یہ رمضان کے روزے، عیدین، لیلۃ القدر، یہاں تک کہ جنت کی نعمتیں یہ سب اسی روزے کے طفیل ہیں۔


اصل بڑا روزہ اسلام کا روزہ ہے۔ وہ کب ختم ہوتا ہے اور کب شروع ہوتا ہے؟ جو خوش قسمت انسان مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اور وہ شروع سے کلمہ پڑھنے والا ہے اس پر بالغ ہوتے ہی یہ روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور یہ روزہ کب ختم ہوگا؟ رمضان کا روزہ تو غروبِ آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے مگر اسلام کا روزہ تو آفتابِ عمر کے غروب پر ختم ہوتا ہے۔ رمضان کے روزہ کا افطار عمدہ سے عمدہ مشروب، لذیذ سے لذیذ غذا ہے۔ اور یہ زندگی کا طویل روزہ، اسلام کا روزہ حضرت محمد ﷺ کے دستِ مبارک سے جامِ کوثر سے کھلے گا۔ اگر وہ روزہ پکا ہے اور اس روزہ کی شرائط آپ نے پوری کر دی اور ہماری روح اس حال میں نکلی کے ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے، یہ روزہ اس وقت ختم ہوگا۔

اس چھوٹے روزے کی پابندیاں ہم سب کو معلوم ہیں ہم سب اس کا اہتمام کرتے ہیں لیکن اس بڑے روزے کا خیال بہت کم لوگوں کو ہے۔ حالانکہ یہ رمضان کا روزہ بھی اس اسلام کے روزہ کے طفیل ملا ہے۔

رمضان کا روزہ کھانے پینے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر یہ روزہ ٹوٹ جائے اسکی قضاء کر سکتے ہیں، کفارہ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ روزہ جو اسلام کا روزہ ہے وہ اگر ٹوٹ جائے بہت بڑا نقصان ہے۔ جسکی تلافی ممکن نہیں۔ اس میں کیا کیا چیزیں منع ہیں۔ (۱) شرک منع ہے، سب سے بدترین چیز جو اللہ کو ناپسند ہے وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا باقی جس جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا اسکو حلال جانا جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا اس کو حرام جانا۔


رمضان کے بعد ہم آزاد نہیں ہوئے، روزہ برابر چلتا رہے گا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ یہ اسلام کا روزہ ہے، ساری عمر کا روزہ ہے۔ اس روزہ کا خیال رکھیے۔ وہ روزہ نہ توڑیے گا۔ وہ روزہ اگر ٹوٹا تو سب کچھ ٹوٹ گیا۔ سب کچھ بگڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے کے ہم اس روزے کو برقرار رکھیں۔

از سید عبدالحسن علی ندوی



# ISLAMIC CENTER OF FREMONT

## Prayer Schedule for - October 2008



4039 Irvington Ave Fremont Ca. 94538 (510) 661-0432 www.icf-sfba.org

October	Day	Shawal	Fajr	Sunrise	Dhohr	Asr	Maghrib	Isha
1	Wednesday	1	05:47	07:04	12:57	05:07	06:53	08:07
2	Thursday	2	05:48	07:05	12:57	05:05	06:52	08:05
3	Friday	3	05:49	07:06	12:57	05:04	06:50	08:04
4	Saturday	4	05:50	07:06	12:56	05:03	06:49	08:03
5	Sunday	5	05:51	07:07	12:56	05:01	06:47	08:01
6	Monday	6	05:52	07:08	12:55	05:00	06:46	07:59
7	Tuesday	7	05:53	07:09	12:55	04:59	06:44	07:58
8	Wednesday	8	05:54	07:10	12:55	04:57	06:43	07:56
9	Thursday	9	05:55	07:11	12:55	04:56	06:41	07:55
10	Friday	10	05:56	07:12	12:54	04:55	06:40	07:53
11	Saturday	11	05:57	07:13	12:54	04:54	06:38	07:52
12	Sunday	12	05:58	07:14	12:54	04:53	06:37	07:51
13	Monday	13	05:59	07:15	12:54	04:52	06:36	07:49
14	Tuesday	14	06:00	07:16	12:53	04:51	06:34	07:48
15	Wednesday	15	06:00	07:17	12:53	04:50	06:33	07:47
16	Thursday	16	06:00	07:17	12:53	04:49	06:31	07:45
17	Friday	17	06:01	07:18	12:53	04:47	06:30	07:43
18	Saturday	18	06:02	07:19	12:53	04:46	06:29	07:42
19	Sunday	19	06:03	07:20	12:53	04:45	06:27	07:40
20	Monday	20	06:04	07:21	12:53	04:44	06:26	07:39
21	Tuesday	21	06:05	07:22	12:52	04:42	06:25	07:38
22	Wednesday	22	06:06	07:22	12:52	04:41	06:24	07:37
23	Thursday	23	06:07	07:23	12:52	04:40	06:22	07:37
24	Friday	24	06:08	07:24	12:52	04:39	06:21	07:36
25	Saturday	25	06:09	07:25	12:52	04:38	06:20	07:35
26	Sunday	26	06:09	07:26	12:52	04:37	06:19	07:33
27	Monday	27	06:10	07:27	12:52	04:35	06:18	07:32
28	Tuesday	28	06:11	07:28	12:52	04:34	06:16	07:31
29	Wednesday	29	06:12	07:29	12:52	04:33	06:15	07:30
30	Thursday	1	06:13	07:30	12:51	04:32	06:14	07:29
31	Friday	2	06:14	07:31	12:51	04:31	06:13	07:28

Iqamah Times at ICF Masjid

**Brothers & Sisters**  
**EID MUBARAK**  
**Please make Dua For all the UMMAH.**  
 JazakAllah.

	Fajr	Dhohr	Asr	Maghrib	Isha
Wed 1	06:00	01:30	5:45	06:53	08:45
Fri 3	06:30	01:30	05:30	06:50	08:15
FRI 10	06:30	01:30	05:30	06:40	08:00
FRI 17	06:30	01:30	05:15	06:31	08:00
FRI 24	06:45	01:30	05:15	06:21	08:00